

## 149908- غسل میں اعضا تسلسل کے ساتھ دھونے کا حکم

سوال

میں نے حیض کے بعد غسل کیا لیکن غسل کے دوران ناک میں پانی چڑھا کر جھاڑنا بھول گئی، اس کے بعد میں نے اپنے بدن کو کپڑے سے خشک کر لیا، اور مکمل وضو کیا تو کیا غسل کے بعد وضو کرنے سے غسل میں آنے والا نفس پورا ہو جائے گا؟ اور غسل اور وضو کے درمیان اپنا بدن خشک کر لیتی ہوں کیا یہ غلط ہے؟ اسی وقت میں نے یہ بھی نوٹ کیا کہ میرے دانتوں پر سفید رنگ کا مادہ چڑھا ہوا ہے تو کیا وضو مکمل کرنے کے لیے اس سے بھی ہٹانا لازمی ہے؟

پسندیدہ جواب

اول :

اہل علم کے راجح موقف کے مطابق کلی، اور ناک میں پانی چڑھا کر جھاڑنا وضو اور غسل دونوں میں واجب ہیں، ان کی تفصیلات پہلے سوال نمبر : (88066) کے جواب میں گزرنچکی ہے۔

دوم :

جس وقت مردیا عورت حدث اکبر یعنی جنابت یا حیض کی وجہ سے غسل کریں تو غسل کرنے کے بعد وضو کی ضرورت نہیں ہے۔

جیسے کہ صحیح مسلم : (327) میں سیدنا جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ بنی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غسل جنابت کا ذکر کیا گیا تو آپ نے فرمایا : (میں تو اپنے سر پر تین چلو ڈال لیتا ہوں)

امام یہتی رحمہ اللہ (1/63) نے اس حدیث پر یہ باب قائم کیا ہے : "باب ہے غسل میں وضو کے داخل ہونے کی دلیل کے بارے میں۔"

اسی طرح شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں :

"جس وقت انسان جنی ہو جائے تو اس کا غسل وضو سے کافی ہو جائے گا، تاہم دوران غسل کلی اور ناک میں پانی چڑھا کر جھاڑ لے۔" ختم شد  
"فتاویٰ نور علی الدرب" (20/120)

سوم :

غسل میں اعضا کو تسلسل کے ساتھ دھونا واجب ہے؟ اس بارے میں اہل علم کے مختلف اقوال ہیں، جیسے کہ "الموسوعۃ الفقیریۃ" (100/11، 102/11) میں ہے کہ "جسور فضانے کرام کے ہاں غسل میں ترتیب اور تسلسل کے ساتھ اعضا دھونا واجب نہیں ہیں۔" جبکہ لیث کہتے ہیں کہ : تسلسل کے ساتھ دھونا لازم ہیں۔

اور امام مالک سے اس بارے میں مختلف روایات ہیں، چنانچہ مالکی فضانے کرام کے ہاں تسلسل کے وجوب کا قول مقدم رکھا گیا ہے، اسی کے مطابق امام شافعی کے شاگردوں کا موقف ہے۔

چنانچہ جسور کے موقف کے مطابق : اگر غسل کے ساتھ وضو بھی کرے تو اعضا نے وضو کے درمیان ترتیب رکھنا لازم نہیں ہوگا۔ اسی لیے اگر کوئی پورا عضو ہی نہ دھونے یا تھوڑی سی جگہ

نشک رہ جائے چاہئے وہ اعضا نے وضو میں جگہ خشک ہو یا دیگر اعضا میں تو بعد میں صرف اتنی ہی جگہ کو دھو لے، چاہئے درمیان میں وقہ زیادہ ہو یا تھوڑا، بلکہ اگر غسل کرتے ہوئے سارا جسم دھو یا وضو کے اعضا نہیں دھوئے تو وہ بعد میں بھی دھو سکتا ہے، ان میں ترتیب سے دھونا لازم نہیں ہے۔

اسی وجہ سے شافعی فقہاء کرام کہتے ہیں: اگر غسل میں وضو نہ کیا، یا کلی یا ناک میں پانی چڑھا کر نہیں بھاڑا تو یہ عمل اس کے لیے مکروہ ہے، مستحب یہی ہے کہ وہ وضو والے یہ سارے اعمال کرے، چاہئے درمیان میں وقہ لب کیوں نہ ہو گیا ہو، تاہم اسے دوبارہ غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اخاف اور خابد کے ہاں تدارک لازم ہے، کیونکہ یہ دونوں جیزیں ان کے ہاں غسل میں واجب ہیں وضو میں واجب نہیں ہیں، تو یہ دونوں عمل اخاف کے ہاں سنت ہیں واجب نہیں ہیں۔ "ختم شد

"الموسوعۃ الفقہیۃ" (11/100-101)

ایسے ہی شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ سے پوچھا گیا:

"اگر غسل جابت یا حاضر سے غسل کے بعد ناخون پر ناخن پا لش لگی ہوئی پائے تو کیا اسے دوبارہ غسل کرنا ہو گا؟"

تو انہوں نے جواب دیا:

"عملی فقہی موقف کے مطابق اس پر غسل واجب نہیں ہے، کیونکہ عملی فقہاء کرام کے ہاں غسل میں تسلسل کے ساتھ اعضا دھونا شرط نہیں ہے، لیکن ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ شرط ہے۔ کیونکہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اسے وضو میں تو شرط کیں لیکن غسل میں شرط نہ کیں؟ اس لیے ایسی عورت کو دوبارہ غسل کرنا ہو گا۔" "ختم شد

"شرفات اندرونیں" (ص 21)

ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ آپ کا غسل ٹھیک ہے، بلکہ اگر غسل میں تسلسل قائم رکھنے کو واجب سمجھیں تب بھی آپ کا غسل درست ہے، کیونکہ غسل اور ناک میں پانی چڑھا کر بھاڑا نے کے عمل میں وقہ بہت معمولی سا ہے، ممکن ہے کہ دو یا تین منٹ سے زائد نہ ہو، اور اس قسم کا وقہ تسلسل کو مفقط نہیں کر سکتا۔

چہارم:

دانتوں پر جم جانے والا سفید اداہ اس وقت دانتوں پر جم ہوتا ہے جب دانتوں کی صفائی صحیح طرح سے نہ ہو۔

اس بارے میں دائیٰ فتویٰ کیمیٰ کے علماء کرام سے پوچھا گیا:

"کھانا کھاتے ہوئے کھانے کے کچھ ذرات دانتوں کے درمیان میں پھنس جاتے ہیں اور غسل یا وضو کے دوران ہم انہیں نکال نہیں پاتے، تو کیا ان کے دانتوں میں پھنسے ہوئے ہوئے کے باوجود ہمارا وضو اور غسل صحیح ہو گا؟"

تو انہوں نے جواب دیا:

"وضو اور غسل ٹھیک ہے، چاہے دانتوں میں کھانے کے معمولی ذرات پھنسے ہوئے کیوں نہ ہو؛ البتہ افضل یہی ہے کہ دانتوں کو اچھی طرح صاف کیا جائے۔" "ختم شد  
دائیٰ فتویٰ کیمیٰ: (5/234)

اس بنا پر آپ کا وضو ٹھیک ہے، تاہم یہ ضروری ہے کہ آپ اپنے دانتوں کی صفائی کا خصوصی طور پر خیال رکھیں۔